


محفوظ رہنے کے تین طریقے



جب آپ باہروں تو
دوسروں سے 1.5
میٹر کے فاصلے پر رہیں۔



اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی
کیساتھ دھوئیں۔



اگر آپ کو کوئی علامات
لاحق ہیں، تو گھر پر
رہیں۔

الگ رہنا
ہمیں اکٹھا
رکھتا ہے

یہ جاننے کے لیے کہ ٹیسٹ کہاں سے کروایا جا سکتا
ہے، وزٹ کریں coronavirus.vic.gov.au/urdu